

Press Release

March 26, 2016

For immediate release

SECP-ICAP Joint Committee on audit oversight board submits its report

ISLAMABAD, March 26: The joint committee of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) and Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP), formed to prepare recommendations for establishing an independent audit oversight set up for public interest company auditors in Pakistan

In a ceremony with Finance Minister M Ishaq Dar as its Chief Guest, the chairman of the joint committee Dr. Tariq Hassan, Advocate Supreme Court presented its report to the Chairman SECP and President ICAP.

The six member Committee constituted on November 14, 2015 comprised three members each from both SECP and ICAP respectively namely Syed Shabbar Zaidi, Mr. Naeem Akhtar Sheikh, Mr. Asad Ali Shah, Mr. Zafar Abdullah Commissioner, Mr. Ali Azeem Ikram Executive Director and Mr. Muzaffar Ahmad Mirza Chief Prosecutor. The report is an outcome of joint deliberation sessions held during last four months.

The report includes historic perspective of Audit quality mechanism in Pakistan and provides a way forward towards formation of an independent audit oversight board, in line with international standards. The Committee acknowledged the significant role of Quality Assurance Board of ICAP and recommended for continuation of QCR function with introduction of oversight of the same by proposed audit oversight board, through appropriate amendment in the SECP Act, 1997. The same is in line with standards set by international standards and best practices.

The establishment of independent audit oversight board for public interest companies would raise quality of audit ensuring protection of minority interest and restoring investor confidence.

The Dr. Tariq Hassan thanked both Chairman SECP and President ICAP for confidence reposed in him and acknowledged valuable contribution from committee members. The report was handed over to Chairman SECP and President ICAP in the presence of honorable Finance Minister Mr. Ishaq Dar, in a ceremony held at Islamabad.

ایس ای سی پی - آئی کیپ کی مشترکہ کمیٹی نے آڈٹ اور سائٹ بورڈ کے قیام پر رپورٹ جمع کرا دی

اسلام آباد (۲۶ مارچ) سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان اور انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی مشترکہ کمیٹی، جو کہ ملک میں مفاد عامہ کی کمپنیوں کے آڈیٹرز کے خود مختار آڈٹ اور سائٹ بورڈ کے قیام کے لئے سفارشات مرتب کرنے کے لئے تشکیل دی گئی تھی، نے اپنی رپورٹ مکمل کر لی ہے۔

رپورٹ ، کمیٹی کے چیئرمین ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ، جناب طارق حسن نے کمیٹی کی سفارشات پر مبنی یہ رپورٹ ایک تقریب کے دوران جس کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار تھے ، چیئرمین ایس ای سی سی پی اور آئی کیپ کے صدر کو پیش کی۔

ایس ای سی سی پی اور آئی کیپ کی مشترکہ انڈیپنڈنٹ آڈٹ اور سائنٹ کمیٹی سات اراکین پر مشتمل ہے جس میں تین اراکین ایس ای سی سی پی کی نامزد کردہ ہیں جبکہ تین ہی اراکین آئی کیپ کے ہیں جبکہ ڈاکٹر طارق حسن ، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ ایس ای سی سی پی کے نامزد کردہ ممبران میں ایس ای سی پی کے کمشنر ظفر عبدلہ ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر علی عظیم اکرام اور چیف پراسیکیوٹر مظفر احمد مرزا شامل ہیں جبکہ جناب شبر زیدی ، نعیم اختر شیخ اور اسد علی شاہ آئی کیپ کی طرف سے نامزد کئے گئے ہیں۔ کمیٹی کی رپورٹ گزشتہ چار ماہ کے دوران متعدد مرتبہ ہونے والے مشترکہ مشاورتی اجلاسوں کا نتیجہ ہے۔

مشترکہ آڈٹ کمیٹی کی رپورٹ میں پاکستان میں آڈٹ کے نظام کے تاریخی پس منظر اور بین الاقوامی آڈٹ کوالٹی کے معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے خود مختار اور آزاد آڈٹ کی نگرانی کے نظام کے لئے اقدامات پیش کئے گئے ہیں۔ کمیٹی نے آئی کیپ کے کوالٹی آشرنس بورڈ کی کاوشوں کو سراہا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ کوالٹی کنٹرول ریویو کو جاری رکھا جائے اور ساتھ ہی ایس ای سی سی پی ایکٹ 1997 میں ترامیم کر کے تجویز کردہ آڈٹ نگرانی بورڈ کو بھی کوالٹی کنٹرول ریویو میں شامل کیا جائے ۔

امید کی جاتی ہے کہ پبلک انٹرسٹ کمپنیوں کے خود مختار اور آزاد آڈٹ اور سائنٹ بورڈ کے قیام سے اقلیتی شیئر ہولڈرز اور سرمایہ کاروں کے مفادات کو تحفظ حاصل ہو گا۔

مشترکہ کمیٹی کے چیئرمین جناب طارق حسن صاحب نے کہا کہ چیئرمین ایس ای سی سی پی اور آئی کیپ کے صدر کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری سونپی اور ساتھ ہی رپورٹ کی تکمیل میں اعانت/شراکت پر کمیٹی کے ممبران کا بھی شکر گزار ہوں۔ تقریب کے اختتام پر وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کی موجودگی میں طارق حسن صاحب نے رپورٹ ایس ای سی سی پی کے چیئرمین اور آئی کیپ کے صدر کے حوالے کر دی۔